

Mod-HSA

آپ اپنے بچے اور اس کے استاد کی، امتحانات/تشخیصی تجزیوں (assessments) کے لیے تیاری میں کیسے معاونت کر سکتے ہیں؟

جب بھی ضرورت ہو، اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے استاد سے ملیں۔ استاد سے کہیں کہ آپ کو اور آپ کے بچے کو گھر پر کرنے کے لیے مشقیں تجویز کریں جن سے امتحان/تشخیصی تجزیے کے لیے تیاری ہو سکے اور آپ کے بچے کو سکول کا کام زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے۔ اساتذہ اور والدین/نگران اس کا خیال رکھیں کہ طالب علم کو کلاس میں اور امتحان/تجزیہ میں وہ مناسب سہولیات مل رہی ہوں جن کی IEP نے نشاندہی کی ہے۔ جب والدین/نگران اور اساتذہ مل کر کام کرتے ہیں تو طلباء کو فائدہ ہوتا ہے۔ مزید معلومات اور Mod-HSA کی تیاری کے لیے امتحان کے نمونے کے سوالات دیکھنے کے لیے براہ مہربانی اس ویب سائٹ پر جائیں: www.mdk12.org

Mod-HSA کے نتائج کی رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے؟

Mod-HSA کے نتائج کی رپورٹ اور گھر بھیجے جانے والی رپورٹ کی تقسیم بھی عام HSA کے نتائج کی رپورٹ کے دنوں میں ہوتی ہے۔ سکولوں، مقامی سکول کے نظاموں، اور ریاست کی کارکردگی کی معلومات، سالانہ "سکول رپورٹ کارڈ" ("School Report Card") میں چھپتی ہیں اور انٹرنیٹ پر www.mdreportcard.org پر فراہم ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کریں۔



(Nancy S. Grasmick)
سکولوں کے ریاستی سپر انٹنڈنٹ، نینسی ایس گریزمک

(James H. DeGraffenreidt, Jr.)
صدر؛ ریاست میری لینڈ، محکمہ تعلیم، جیمز ڈی گرافنرائڈ

(Martin O'Malley)
گورنر؛ ریاست میری لینڈ



اس دستاویز کو 'میری لینڈ کی مالی امداد برائے ریاستی بہبود' (Maryland State Improvement Grant)، گرانٹ نمبر H373X070019 کے تحت، 'شعبہ خصوصی تعلیم' (Special Education/Early Intervention Services) کے تحت، 'بلا تاخیر انسدادی خدمات' (Special Services) نے تشکیل دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں بیان کردہ آراء امریکی محکمہ تعلیم یا کسی اور وفاقی ادارے کی آراء کی ترجمان بھی ہوں، نہ ایسا سمجھنا چاہیے۔ شعبہ 'خصوصی تعلیم'/'بلا تاخیر انسدادی خدمات' کو 'آفس آف سپیشل ایجوکیشن پروگرامز' (Office of Special Education Programs)، 'آفس آف سپیشل ایجوکیشن اینڈ ری ہیبیلی ٹیشن سروسز' (Office of Special Education and Rehabilitation Services)، اور 'ایو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن (US Department of Education) سے مالی امداد وصول ہوتی ہے۔ ان معلومات کے حق طبع (copyright) محفوظ نہیں کیے گئے۔ قارئین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس مواد کو نقل کریں اور بانٹیں، مگر براہ مہربانی اس ذکر کے ساتھ کہ یہ مواد ریاست میری لینڈ کے محکمہ تعلیم کے شعبہ 'خصوصی تعلیم'/'بلا تاخیر انسدادی خدمات' (Division of Special Education/Early Intervention Services) کا تشکیل کردہ ہے۔

Maryland State Department of Education
200 West Baltimore Street
Division of Special Education/Early Intervention Services
Baltimore, Maryland 21201- 2595

فون (آواز/voice): (410) 767-0249
فون (TTY/TTD): (410) 333-6442
فیکس (fax): (410) 333-8165

ہائی سکول کا ترمیم شدہ امتحان/تشخیصی تجزیہ (Mod-HSA)

آپ کے بچے کے پروگرام سے
اس کا کیا تعلق ہے



MOD-HSA



PARENT GUIDE TO THE MODIFIED HIGH SCHOOL ASSESSMENT - Mod-HSA

Mod-HSAs کیا ہیں؟

Mod-HSAs متبادل امتحان/تشخیصی تجزیے ہیں جو متعلقہ کورس کے 'سیکھنے کے بنیادی اہداف' (Core Learning Goals) اور ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار پر مبنی ہیں اور جو خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے والے ان طلباء کے لیے ہیں جو شمولیت کی خاص شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ الجبرا/تجزیہ معلومات (data analysis)، انگریزی، علم حیاتیات، اور نظام حکومت کے تشخیصی تجزیے، میری لینڈ کی ہائی سکول سے گریجویٹ ہونے کے امتحان کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ (جو طلباء 2005 کے موسم غزاں میں یا اس کے بعد گریڈ 9 میں داخل ہونے ان کے لیے HSA پاس کرنا لازمی ہے)۔

Mod-HSA بالکل اسی مواد پر بنتے ہیں جس پر معمول کا ہائی سکول کا تشخیصی تجزیہ (HSA) بنتا ہے (بمطابق 'میری لینڈ کے سیکھنے کے بنیادی اہداف اور تجزیے کی حدود' Core Learning Goals and Assessment limits)۔

Mod-HSAs کو کیوں تشکیل دیا گیا تھا؟

'کوئی بچہ پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا' [No Child Left Behind (NCLB)] کی پالیسی اجازت دیتی ہے کہ ریاستیں ترمیم شدہ تشخیصی تجزیات (Mod-HAS) فراہم کریں۔ یہ امتحان/تجزیے، ان طلباء کے لیے بنے ہیں جنہیں کورس کی سطح کے تعلیمی مواد کے معیار سے ہم آہنگ ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کی ضرورت ہے اور جنہیں تدریس اور تشخیصی تجزیے میں یہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ طلباء بالکل وہی مواد سیکھ رہے ہیں جو عام طلباء سیکھ رہے ہیں، مگر ریاستی امتحان/تشخیصی تجزیے میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کی ضرورت ہے۔

ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کیا ہیں؟

'ترمیم شدہ، تعلیمی کارکردگی کے معیار کی بنیاد بالکل اسی تعلیمی نصاب کے معیار پر ہے (بمطابق 'والٹھیٹی سٹیٹ کریکولم اینڈ اسیسمنٹ لمٹس' Voluntary State Curriculum and Assessment Limits) جس پر ریاست کے عام تشخیصی تجزیہ (HSA) کی بنیاد ہے۔ تاہم، Mod-HSA میں طلباء کو نصاب کے معیار تک پہنچنے کے لیے ان کی سیکھنے کی مختلف خاصیتوں کے مطابق امتحان کو مختلف طرح سے تشکیل دیا گیا ہے۔ مثلاً ایسے سوالات جن میں پڑھنے کے لیے کم اور مختصر پیرے ہوں، مختصر یا قدرے آسان سوال، یا ایسے سوال جن میں متبادل جوابوں کی تعداد کم ہو۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ Mod-HSA اسی مواد میں سے بنتا ہے جس میں سے HSA بنتا ہے۔

براہ مہربانی، 'والٹھیٹی ریاستی نصاب' (Voluntary State Curriculum) کی وضاحت دیکھنے کے لیے www.mdk12.org پر جائیں۔

Mod-HSA کو متعلقہ کورس کی سطح کے مواد کے معیار پر کیوں بنایا گیا ہے۔

Mod-HSA کے امتحان متعلقہ کورس کے تعلیمی مواد کے معیار پر بنائے گئے ہیں تاکہ جو طلباء Mod-HSA میں حصہ لیں انہیں اپنے کورس کے معیار کے مواد کی تدریس ملے تاکہ وہ اپنے کورس کے معیار کی مہارت حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔

Mod-HSA میں شمولیت کے لیے، معذوری رکھنے والے طلباء کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟

Mod-HSA کے لیے اہل طالب علم کی نشاندہی اس کی انفرادی تجزیاتی معلومات اور اس کے IEP میں موجود انفرادی تجزیے کی معلومات اور تدریس اور خدمات سے متعلق معلومات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ الجبرا/تجزیہ معلومات (data analysis)، انگریزی، علم حیاتیات، اور نظام حکومت میں، طالب علم کی تدریس اور تشخیصی تجزیے کے لیے نشاندہی، اس کے کورس کی سطح کے مواد کے معیار اور ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کے مطابق، جو میری لینڈ کے 'بنیادی سیکھنے کے اہداف' (Core Learning Goals)، سے ہم آہنگ ہے، کی جاتی ہے۔

کیا والد/والدہ اپنے بچے کی، Mod-HSA میں شمولیت سے انکار کر سکتے ہیں؟

'تعلیمی ایکٹ برائے معذوری رکھنے والے طلباء' (IDEA) اور 'کوئی بچہ پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا' [No Child Left Behind (NCLB)] کے مطابق یہ ضروری ہے کہ تمام طلباء جو معذوری رکھتے ہوں، وہ ریاستی اور مقامی تشخیصی تجزیوں میں شامل ہوں۔ IEP ٹیم کے رکن کی حیثیت سے، والدین/نگران، ٹیم کے دوسرے ارکان کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ان کا بچہ کن تشخیصی تجزیوں میں حصہ لے گا۔ میری لینڈ میں، ہائی سکول کے وہ طلباء جو معذوری رکھتے ہوں، مندرجہ ذیل میں حصہ لیتے ہیں:

- ریاضی/تجزیہ معلومات (data analysis)، انگریزی، علم حیاتیات، اور نظام حکومت میں 'میری لینڈ کا ہائی سکول کا تشخیصی تجزیہ' [Maryland High School Assessment (HSA)]، (سہولیات کے ساتھ یا ان کے بنا، حسبِ مناسبت)
- ریاضی/تجزیہ معلومات (data analysis)، انگریزی، علم حیاتیات، اور نظام حکومت میں 'ترمیم شدہ ہائی سکول کا تشخیصی تجزیہ' [Modified High School Assessment (Mod-HSA)]، (سہولیات کے ساتھ)

وہ طلباء جو IEP ٹیم کے مطابق، مندرجہ بالا تشخیصی تجزیات میں حصہ لینے سے قاصر ہوں، وہ مندرجہ ذیل میں حصہ لیتے ہیں:

- پڑھنے کی صلاحیت، ریاضی اور سائنس میں 'میری لینڈ کا سکول کا متبادل تشخیصی تجزیہ' [Alternate Maryland School Assessment (Alt-MSA)]، گریڈ 10 کے ان طلباء کے لیے جنہیں شدید ذہنی معذوری ہو۔

Mod-HSA کن تعلیمی شعبہ جات کا تشخیصی تجزیہ کرتا ہے؟

Mod-HSA لینے والے طلباء کا الجبرا/تجزیہ معلومات (data analysis)، انگریزی، علم حیاتیات، اور نظام حکومت میں تشخیصی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ Mod-HSA میں شامل طلباء کا ان کے کورس کی سطح کے معیار اور ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کے مطابق تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ معیار، طالب علم کے متعلقہ کورس کے لیے مقرر، میری لینڈ کے 'سیکھنے کے بنیادی اہداف' (Core Learning Goals) کے ہم آہنگ ہونے چاہئیں۔ اس لیے صرف تعلیمی کارکردگی کے معیار کی ترمیم کی جاتی ہے، اور مواد کے اس معیار کی نہیں جس پر ان ترمیم شدہ تعلیمی کارکردگی کے معیار کی بنیاد ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ Mod-HSA میں حصہ لینے والے طلباء کو ہائی سکول کا ڈپلومہ لینے کی معمول کی شرائط معاف نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب علم کسی ایک مضمون میں Mod-HSA لے اور کسی دوسرے مضمون میں عام تشخیصی تجزیہ (HSA) لے۔ (مثلاً، کوئی طالب علم علم حیاتیات اور انگریزی میں Mod-HSA کا اہل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ الجبرا/تجزیہ معلومات (data analysis) اور نظام حکومت میں HSA کا اہل ہو۔

آپ اپنے بچے اور اس کے استاد کی، امتحانات/تشخیصی تجزیوں (assessments) کے لیے تیاری میں کیسے معاونت کر سکتے ہیں؟

جب بھی ضرورت ہو، اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے استاد سے ملیں۔ استاد سے کہیں کو آپ کو اور آپ کے بچے کو گھر پر کرنے کے لیے ایسی مشقیں تجویز کریں جن سے امتحان/تشخیصی تجزیے کے لیے تیاری ہو سکے۔ جب والدین/نگران اور اساتذہ مل کر کام کرتے ہیں تو طلباء کو فائدہ ہوتا ہے۔

ریاست میری لینڈ کے محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ

www.marylandpublicschools.org

